


کاتی پشوو له گه ل داپيره

## På ferie hos bestemor




- ✎ Violet Otieno
- ✉ Catherine Groenewald
- ☞ Agri Afshin
- 💬 kurdisk (sorani) / bokmål
- 🔊 nivå 4

ئۆدۇنگۆ و ئاپىyo لە شار لەگەل باوکىيان دەزىان، ئەوان زۆر بە پەرۆش بۇون كە پىشىو دەست پى بکات. نەك تەنیا لە بەرپىشۇو قوتابخانە، بەلكو ئەوان دەيانتوانى بچن چاوابىان بىكەۋى. ئەو لە گۈندىيکى شويىنى ماسىگىرتن لە نزىك دەرىياچە يەك دەزىا.

• • •

Odongo og Apiyo bodde i byen med faren sin. De så fram til ferien. Ikke bare fordi skolen var slutt, men fordi de skulle besøke bestemoren sin. Hun bodde i en fiskerlandsby nær en stor innsjø.






ئۆددۈنگۈ و ئاپىو گروتىنىيکى زۆريان ھەبۇ لەبەر ئەوهى دووبارە دەيانتوانى سەردانى داپىرەيان بىكەنەوە. لە شەوى راپردووھە بارگەوبنەيان پىچابووھە و ئامادە بۇون بۇ سەفەرىيکى دوورودرىز بۇ گوندەكە داپىرەيان. ئەوان خەوييانلى نەدەكەوت و ھەمۇو شەوهەكە ھەرباسى سەردانەكەيان دەكىد.

1

Odongo og Apiyo var begeistret fordi det var på tide å besøke bestemor igjen. Kvelden før pakket de veskene sine og gjorde seg klare for den lange reisen til landsbyen hennes. De fikk ikke sove og de snakket hele natten om ferien.



رۆژی دواتر، بەیانی زوو ھەموویان بە ئۆتۆمبىلەکەی باوکیان بەرەو گوندەکە بەری کەوتن. ئەوان بە داوىنى چياکان، بە لای ئازەلان و بە ناو كىلەگەكانى چايیدا دەرۆيىشتن. ئەوان ئۆتۆمبىلەكانیان دەزمارد و گۆرانىييان دەگوت.

...


Tidlig neste morgen dro de til landsbyen i bilen til faren sin. De kjørte forbi fjell, ville dyr og teplantasjer. De telte biler og sang sanger.

دواي ماوهيهك مناله كان ماندوو بون و خهويان لى كهوت.

...

Etter en stund ble barna trøtte og sovnet.





کاتى گېشتىنە گوندەكە، باوکيان ئۆددۈنگۈ و ئاپىيۇ لە خەو ھەستاند. ئەوان چاويان بە داپىرەيان، "نيار كانيادا"، كەوت كە لەسەر بەرەيەك لە زىر درەختىك پشۇوی دەدا. بە زمانى لو، نيار كانيادا واتە "كچى خەلکى كانيادايە." ئەو ئافرهتىكى بەھىز و جوان بwoo.


...

Faren vekket Odongo og Apiyo idet de ankom landsbyen. De fant Nyar-Kanyada, bestemoren sin, som hvilte på en matte under et tre. På luo betyr Nyar-Kanyada "datteren til Kanyada-folket." Hun var en sterk og vakker kvinne.

نیار-کانیادا به خیرهاتنى کردن بۇ ژوورى و به خوشحالىيە و دەستى كرده سەما كردن و گۆرانى گوتىن. نەوهەكائى زۆر تەنگاو بۈون بۇ ئەوهى دىارييەكائى كە لە شار ھىنابۇويان، بىدەن بە داپىرەيان. ئۆدۇنگۆ دەيگوت "دىارييەكەي من لە پىشدا بکەوه"، ئاپىؤش دەيگوت: "نا، دىارييەكەي من لە پىشدا بکەوه!"

...


Nyar-Kanyada ønsket dem velkommen og danset rundt i rommet mens hun sang av glede. Barnebarna hennes var begeistret over å overrekke gavene de hadde tatt med fra byen. "Åpne min gave først", sa Odongo. "Nei, min gave først!" sa Apiyo.



دوای ئەوهى داپىرە دىيارىيەكانى كىدەھوھ، بەپىيى كەلتۈورى خۆيان سوپاسى كىرىن.

• • •

Etter at hun hadde åpnet gavene, velsignet Nyar-Kanyada barnebarna sine på tradisjonelt vis.




دواتر ئۆدۇنگۆ و ئاپىو چۈونە دەرى. ئەوان شوين پەپوولەو بالىندەكان كەوتىن.

• • •

Så gikk Odongo og Apiyo ut. De jagde sommerfugler og fugler.





ئهوان سەر درەختەكان كەوتۇن و لە ئاوى دەرياچەكەدا يارىان كەرد.


...

De klatret i trær og plasket i vannet i innsjøen.

کاتى هەوا تارىك بۇو بۇ خورادنى ئىوارە گەرەنەوە مالھوھ. بەرلەوەي خواردنە كەيان تەواو بىكەن، خەويان لېكەوت.

• • •


Da det ble mørkt, gikk de tilbake til huset for å spise middag. Før de ble ferdige med å spise begynte de å falle i søvn!



رۆژی دواتر باوکى گەرایه وە بۆ شار و منالله کانى لاي نيار کانیادا بە جى هېشت.

• • •

Dagen etter kjørte faren deres tilbake til byen og lot dem bli igjen hos Nyar-Kanyada.





ئۆدۇنگۆ و ئاپىيۇ يارمەتى دايپىرەيان دا لە كاروبارەكانى مالھوھ. ئەوان دار و ئاويان هيئنا. ھەروھا لە كولانەمىريشىكە كان ھېلىكەكانيان كۆ كردىوھ و لە سەوزىخانەكەش سەوزىيان بىرىيەوھ.

...

Odongo og Apiyo hjalp bestemoren sin med gjøremålene i huset. De hentet vann og ved. De samlet egg fra hønene og plukket grønnsaker fra kjøkkenhagen.

نیار کانیادا نهوهکانی فیئر کرد که چۆن ئوگالى "نانی نه رم" دروست بکەن و لەگەل شۆربا و بیخۇن. ھەروهەا فیئری کردن چۆن برنجى نارگىلى دروست بکەن و لەگەل ماسى برۋا و بیخۇن.

...

Nyar-Kanyada lærte barnebarna sine hvordan de skulle lage myk ugali for å spise sammen med en gryterett. Hun viste dem hvordan de skulle lage kokosris for å spise sammen med grillet fisk.





رۆژیکیان ئۆدۇنگۆ مانگاکانى داپىرەی برد بۇ له وەراندىن. مانگاکان چوونە ناو كىلگەي ھاوسىكەيان. جوتىارى ھاوسىيان لە ئۆدۇنگۆ تۈورە بۇو و ھەرەشەيلىرى كەد كە ئەوجار مانگاکان دەبا بۇ خۆي، چونكە ئەوان سەوزىيەكانى ئەوييان خواردبۇو. لە دواي ئەو رۆژه ئۆدۇنگۆ زياڭاتر ئاڭادارى مانگاکان بۇو، بۇ ئەوهى جارييىكى دىكە كېشە دروست نەكەن.

...

En morgen tok Odongo kuene til bestemoren sin ut for å beite. De løp inn på gården til en nabo. Bonden ble sint på Odongo. Han truet med å beholde kuene siden de spiste avlingen hans. Etter den dagen sørget gutten for at kuene ikke skapte trøbbel igjen.



رۇزىكى دىكە منالەكان لەگەل داپىرەيان چوون بۇ بازار. ئەو لە بازارەكە شويىنېكى بچووكى ھەبوو، كە سەوزى، شەكر و سابوونى دەفرۆشت. ئايپىو پىيى خۆش بۇو نرخى شتەكان بىلىت. ئۆدۈنگۈش شتەكانى بۇ كرييارەكان دەپىچاوه كە كريبۈويان.

• • •

En annen dag dro barna til markedspllassen sammen med Nyar-Kanyada. Hun hadde en bod der hun solgte grønnsaker, sukker og såpe. Apiyo likte å fortelle kundene prisen på varene. Odongo pakket varene som kundene kjøpte.



له کۆتاپى رۆزه‌کە پىكەوە چایان خواردەوە و لە ژماردنى پارەكان يارمهتى داپىرەيان دا.

...


Da dagen var omme, drakk de krydret te sammen. De hjalp bestemor med å telle pengene hun hadde tjent.

بەلام پشۇو زۆر زۇو تەواو بۇو و منالەكان ناچار بۇون دووباره بگەرىنەوە شار.  
نيار كانيادا كلاويىكى دا به ئۆدۈنگۆ و بلوزىكىشى دا به ئايپيو. داپىرە بۆ رېڭا،  
خواردنى بۆ ئامادە كردىبوون.

...

Men snart var ferien over og barna måtte dra tilbake til byen. Nyar-Kanyada ga Odongo en skyggelue og Apiyo en genser. Hun pakket mat for reisen deres.





کاتیک باوکیان هات به دواياندا بياناتهوه، ئهوان پييان خوش نهبوو كه  
دابيرهيان بېجى بېھىلەن. ئهوان دايان له نيار كانيادا كرد كە ئهويش له گەلىان  
بچى بۆ شار. دابيره پىكەنى و گوتى: "من بۆ زيانكردن له شار زۆر پير بومە،  
بەلام چاوهرى دەبم تا ئىوه دووبارە دىنهوه بۆ ئىرە."

...

Da faren deres kom for å hente dem, ville de ikke dra.  
Barna tryglet Nyar-Kanyada om å bli med dem til byen.  
Hun smilte og sa: "Jeg er for gammel for byen. Jeg skal  
vente på at dere kommer tilbake til landsbyen min."

ئۆدۇنگۆ و ئاپىو زۆر بە گەرمى داپىرەيان لە باوهش گرت و مائىاوايىيان لى كرد.

...

Odongo og Apiyo klemte henne hardt og tok farvel.





کاتى که ئۆدۇنگۇ و ئاپىyo گەرانهوه قوتا بخانە، ژيانى گوندەكەيان بۆ هاوريڭيان باس كرد. ھەندىك لە مىالەكان ھەستىيان دەكىد زيان لە شار خۆشتىرە، كەچى ھەندىكى دىكەيان پېيان وابوو ژيانى گوند باشتىرە. بەلام لە ھەمووشتى گۈنگەر، ھەموويان ھاۋرا بۇون كە ئۆدۇنگۇ و ئاپىyo داپىرەيەكى زۆر مىھەرەبانيان ھەيە.

...

Da Odongo og Apiyo dro tilbake til skolen, fortalte de vennene sine om livet på landet. Noen barn syntes at livet i byen var godt. Andre syntes at landet var bedre. Men viktigst av alt var at alle var enige i at Odongo og Apiyo hadde en fantastisk bestemor!



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

کاتی پشوو له گهڙ داپيره

## På ferie hos bestemor

Skrevet av: Violet Otieno

Illustret av: Catherine Groenewald

Oversatt av: Agri Afshin (ckb), Espen Stranger-Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreforsidlet av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens](#).